

وزیر تندرستی ہریم داوا لے ہاؤ تیان دیکات لے رگای ٹنہا ینو و دہرمان نیکن



وزیر تندرستی ہریم داوا لے ہاؤ تیان دیکات لے رگای ٹنہا ینو و دہرمان و پداویستی پزشکی لگای سہیا میدیا و بفرشرت. دیشرت " داوا لے ہاؤ تیان دیکین لے رگای ٹنہا ینو و دہرمان و پداویستی پزشکی نیکن.

ٹم سشمم، سامان بزنجی وزیر تندرستی حکومتی کاربہ کبری ہریم لے کنفراسکی رنامنووسیدا رایگیا ند، ہاؤ تیان دیکت خیان بے دووربگرن لے کینی دہرمان و پداویستی پزشکی لے رگای سہیا میدیا و.

ٹمازی بلویش کرد، سہیا میدیا نا بے بنہما یک بے چار سہر و خزمہتگوزاری تندرستی، چونکہ زربلی ٹو پیج و ہٹمارا نی ریکلام بے دہرمان و پداویستی پزشکی دیکن نافہرمی و نایاسا یین.

ٹووشی خستہ روو، نشتہرگری درژکردنی با ہا بے مہستی جوانکاری بے ہموو شہو یک رگای بے دراو و تنہا لے حا ٹنہا کدا نیکت ک ٹو کس لے رووی تندرستی و کسہی ہیکت لے نا کی فاجہکانی.

وتیشی، هەر پزیشکێک ل هەر نەخەشخانەیەک ئێو نەشتەرگەرایی بەمەبەستی جوانکاری ئێنجام بدات
تاوانبار و لپرسینەووی لێگەت دەکەت.

بەسەر لێوێش کرد، سەرچەم نەشتەرگەراییکانی درێژکردنی بە مەترسی دروست دەکەن بە سەرژێانی ئێو
کەسان، هەرچەندە خەشیاڵ رازی بن، بەبەم تەندروستی گشتی رێگە نادات بە خستە مەترسی ژێانی
هەوا تیا نەو.